

Ref: AMC-FIN/JSIL/2021/03/1271

March 18, 2021

FORM-4


The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 26th Annual General Meeting to be held on Friday, April 09, 2021 at 10:30 a.m. through Zoom Video Conference also published in "The Nation" and "Roznama Nawa-e-Waqt" newspapers on March 18, 2021, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



Muhammad Khawar Iqbal
Director Finance & Company Secretary



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the twenty sixth 26th Annual General Meeting of the members of JS Investments Limited, (the "Company") will be held at 10:30 a.m. on Friday, April 9, 2021 through Zoom Video Conference to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the standalone and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2020, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby notified that the retiring auditors, Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants have completed their five years as Auditors of the Company and are no longer eligible for appointment as per the requirement of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of new auditors, Messrs KMPG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants in their place who have indicated their consent to act as Auditors.

Special Businesses:

3. To ratify and approve balances and the transactions carried out by the Company and funds under its management in the ordinary course of business on arm's length basis with JS Bank Limited (Related Party) as at and during the financial year ended December 31, 2020 under the authority of the resolution passed by the members in the last annual general meeting held on April 09, 2020.
4. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions carried out or to be carried out with Related Parties in the ordinary course of business on arm's length basis till next Annual General Meeting.

Attached to this Notice is a statement of material facts in relation to the aforesaid special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017. The said statement also contains the precise text of the resolutions to be passed in this regard. The notice of meeting as well as statement has also been placed on the Company's website: (www.jsil.com).

By order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
Company Secretary

Karachi: March 18, 2021

Notes:

Corona virus Contingency Planning for AGM

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021, permitted Companies which are facing difficulties in holding general meeting physically, to opt to hold such meeting through electronic mode.

Considering the above referred regulatory permissibility, and in view of threat posed by the third wave of COVID-19, the highly contagious nature of the virus, and the practical difficulties in maintain social distancing in a public gathering, the Company intends to convene this AGM electronically through webinar only to safeguard the health and well-being of its members, Officers and Directors.

In view of the above, please note that the Company has made proper arrangements for the shareholders who will be participating in the AGM proceedings through Zoom Link. For that purpose, the shareholders are requested to email the following information with subject "Registration for 26th AGM of JSIL" at email address AGM@jsil.com. Zoom link to join the AGM will be shared with only those shareholders from whom all required particulars are received at the given email address not less than 48 hours before the time of holding the AGM. The shareholders can also provide their comments and questions relating to agenda items of the AGM on email at AGM@jsil.com.

Sr.No.	Name	Folio/CDS Account Number	CNIC No.	Mobile Number	Email Address

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measure are in place for well being of its shareholders.

1. The Company, in accordance with Section 223(7) of the Companies Act 2017, has placed the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020 along with Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report on its website: www.jsil.com.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from April 02, 2021 to April 9, 2021 (both days inclusive) for attending the Annual General Meeting. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on April 01, 2021 by the Independent Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shakra-e-Faisal, Karachi, will be treated as being in time for entitlement to attend the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as proxy to attend, speak and vote for him/ her. An instrument of proxy or power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarial certified copy of such power of attorney or such authority to be valid, be deposited with the registered office of the Company not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting. The proxy form in English and Urdu Languages is attached with this report and has also been placed on Company's website.



4. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No. 1 of 2000:

A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
 - b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
5. Shareholders are requested to immediately notify the Share Registrar of the change in their addresses, if any.
6. **Computerized National Identity Card ("CNIC")** Shareholders are requested to provide immediately if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shakra-e-Faisal, Karachi. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at CNIC@jsil.com along with folio number and updated address for correspondence.
7. **Payment of cash dividend through electronic mode.** The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that any cash dividend declared by a listed company must be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide electronic dividend mandate on E-Dividend Form available on the Company's website (www.jsil.com) enabling the Company to credit their future cash dividends directly to their designated bank accounts.

8. Electronic Transmission of Annual Financial Statement and Notices (Optional)

In pursuance of the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under S.R.O 787 (I)/2014, the SECP has allowed companies to circulate annual Audited Financial Statements, along with the notice of annual general meeting (Notice) to its members through e-mail subject to compliance with the conditions outlined in the referred SRO of SECP.

The transmission of annual Audited Financial Statements with Notice to members through e-mail shall be considered compliance with the relevant requirements of Sections 223 and 233 of the Companies Act 2017 subject to certain conditions, prescribed in the said notification.

For the convenience of its Shareholders, the Company has placed a Standard Request Form on the Company's website (www.jsil.com), so that the members may use it to communicate their e-mail address and consent for electronic transmission of annual Audited Financial Statement and Notice thereon.

- 9.** SECP through its SRO 40(I)/2016, dated May 31, 2016 and Section 223 (6) has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, Auditors' Report and Directors' Report etc. ("annual audited accounts") to its members through digital recording devices such as, CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report, 2020 to its shareholders in the form of CD CD (Digital Disc). Any member requiring printed copy of Annual Report, 2020 may send a request using a Standard Request Form placed on Company's website www.jsil.com.

10. Unclaimed Dividend and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical share, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

11. E-Voting

Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.



STATEMENT OF MATERIAL FACTS CONCERNING SPECIAL BUSINESS PURSUANT TO SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business proposed to be transacted at the annual general meeting.

Agenda Item No. 3 of the Notice – Ratification / Approval of Transactions carried out with related parties during the year ended December 31, 2020.

The Company and funds under its management carried out transactions as detailed in the below draft resolution with JS Bank Limited in the ordinary course of business on arm’s length basis and under the authority of the special resolution of the members as approved by them during the last annual general meeting held on April 09, 2020. All such transactions and balances appearing on balance sheet date are presented before the Board of Directors for their review and consideration on recommendation of the Audit Committee on quarterly basis pursuant to Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Regulation 5 of Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018.

However, since majority of the Company’s Directors (namely Mr. Kamran Jafar, Mr. Mr. Tahir Ali Sheikh, Mr. Babbar Wajid and Mr. Hasan Shahid) were considered interested in the transactions carried out with JS Bank Limited as mentioned in the below draft resolution. Therefore, these transactions conducted by the Company and Funds under its management with JS Bank Limited during the calendar year ended December 31, 2020 are being placed before the shareholders for their consideration and approval. These transactions with related party are entered in ordinary course of business on arm’s length basis, and have been duly cleared by the Audit Committee of JSIL.

The following resolution is proposed to be passed as Special Resolution with or without any modification:

“Resolved that following transactions carried out by the Company and Funds under its management in the ordinary course of business with JS Bank Limited during the financial year ended December 31, 2020 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

Entity	Rent paid	Rent Payable	Rent Receivable	Bank balance with JS Bank Ltd.	Return on bank deposits	Management fee paid on sharing on distribution of mutual funds	Amount received under Refinancing Scheme for Salaries & Wages	Amount payable under Refinancing Scheme for Salaries & Wages	Other receivable
JS Investments Limited	2,676,634	33,942	2,409,149	6,563,839	3,224,053	9,667,565	80,185,959	80,925,089	1,465,064

Fund / Entity	Bank balance/ TDR balance in JSBL	Mark up income	Mark up receivable	Bank charges
JS Income Fund	70,095,088	6,887,692	-	-
JS Islamic Income Fund	3,845,355	-	-	-
JS Fund of Funds	824,862	68,373	1,365	-
JS Cash Fund	5,153,143	601,233	19,829	569
JS Growth Fund	94,938,133	3,879,037	1,410,751	870
JS Value Fund	58,094,928	1,277,466	405,869	-
JS Pension Savings Fund-Equity Sub-Fund	17,392,868	134,953	72,097	-
JS Large Cap. Fund	8,926,651	903,580	179,688	225
JS Pension Savings Fund-Money Market Sub-Fund	490,900	564,951	19,104	
Unit Trust of Pakistan	10,983,105	2,859,116	417,949	0
JS Islamic Fund	572,672	-	-	-
JS Islamic Hybrid Fund of Funds Mustahkem	10,000	-	-	-
JS Islamic Hybrid Fund of Funds Mustanad	19,485	-	-	-
JS Islamic Hybrid Fund of Funds Mutasanib	10,000	-	-	-
JS Islamic Hybrid Fund of Funds Mufeed	10,000	-	-	-

Agenda Item No. 4 of the Notice – Authorisation to the Chief Executive Officer for the approval of transactions carried out and to be carried out with JS Bank Limited (related party) till next Annual General Meeting.

The Company and funds under its management shall continue to carry out transactions with JS Bank Limited in the ordinary course of business on arm's length basis till next annual general meeting. Such transactions shall be 'routine' in nature and shall not involve any material or special deals or arrangements.

The majority of the Directors of JSIL (being nominees of JS Bank Limited) are considered interested in these transactions. Therefore, these transactions with JS Bank Limited (as a related parties party) have to be approved by the shareholders in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017, Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Regulation 5 of Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018.

In order to ensure smooth business operations, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve routine transactions to be carried out in the ordinary course of business on arm's length basis with related parties as mentioned in the following draft resolution (with or without modifications) till next annual general meeting. However, these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their approval/ratification. Such a proposal has been cleared by the Audit Committee of JSIL.



“Resolved that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve transactions to be carried out with JS Bank Limited in the ordinary course of business on arm’s length basis till next Annual General Meeting.

Resolved further that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for ratification/approval.”

Interest of Directors:

The majority of the Directors are employees of JSBL and are interested to the extent of their shareholding in the Company.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے ممبران کا 26 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 09 اپریل 2021ء صبح 10:30 بجے بذریعہ زوم (Zoom) ویڈیو کانفرنس درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

غیر رسمی کاروائی

- 1- 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی غیر مجتمع اور مجتمع آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے و ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کے جائزہ رپورٹ کی وصولی، اس پر غور اور منظور کرنا۔
- 2- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز EY فورڈ روڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر اپنے پانچ سال مکمل کر لیے ہیں اور لنڈن کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی ضرورت کے مطابق تقرری کے اہل نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آڈٹ کمیٹی نے نئے آڈیٹرز کی تقرری کی تجویز پیش کرتے ہوئے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ان کی جگہ پر آڈیٹرز کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

خصوصی کاروائی

- 3- 09 اپریل 2020 کو منعقد ہونے والی پچھلی سالانہ اجلاس عام میں اراکین سے منظور کردہ قرارداد کے اختیار کے تحت 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی اور اس کے زیر انتظام فنڈز کی JS بینک لمیٹڈ (متعلقہ فریق) کے ساتھ روزمرہ کاروبار میں ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے کی جانے والی ٹرانزیکشنز اور بیلنس کی توثیق اور منظوری دینا۔
 - 4- اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے روزمرہ معاملات میں کی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز جو کمپنی کے متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جائیں ان کی منظوری دینا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت لازمی طور پر پیش کردہ خصوصی کاروبار کے سلسلے میں مادی حقائق پر مبنی گوشوارے اس نوٹس سے منسلک ہیں۔ مذکورہ اسٹیٹمنٹ میں اس ضمن میں منظور کی جانے والی قراردادوں کا بھی متن موجود ہے۔ اجلاس کا نوٹس گوشواروں کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر بھی موجود ہے۔

تکمیل بورڈ

محمد خاور اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 18 مارچ 2021

نوٹس

سالانہ اجلاس عام (AGM) کے لیے کوآرڈینیشن ہنگامی منصوبہ بندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے مورخہ 3 مارچ 2021ء کو سرکولر نمبر 6 کے تحت ایسی کمپنیز کو اجلاس عام بذریعہ الیکٹرانک موڈ منعقد کرنے کی اجازت دی ہے جنہیں عام طور پر اجلاس منعقد کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔



مذکورہ بالا ریگولیری اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور COVID-19 کی تیسری لہر کی انتہائی متعدی نوعیت اور عوامی اجتماع میں معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے میں عملی مشکلات کے پیش نظر کمپنی اس سالانہ اجلاس کو ویبنار کے ذریعے کرنے کا ادادہ رکھتی ہے تاکہ ممبران، افسران اور ڈائریکٹران کی صحت اور بہبود کا تحفظ یقینی بنایا جاسکے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، ازراہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنی نے بذریعہ زوم لنک کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لینے والے شیئر ہولڈرز کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات بمعہ مضمون " رجسٹریشن برائے JSIL کا 26 واں سالانہ اجلاس عام " ای میل ایڈریس AGM@jsil.com پر ای میل کریں۔ سالانہ اجلاس عام میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے زوم لنک انہی شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات دیئے گئے ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنی آراء اور سوالات AGM@jsil.com پر ای میل پر فراہم کر سکتے ہیں۔

سیریل نمبر	نام	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

کمپنی بہترین طریقوں اور حکومت و SECP کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنے شیئر ہولڈرز کی خیر و عافیت کے لئے تمام حفاظتی اقدام یقینی بنائے گی۔

1- کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 کے مطابق 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور ان پر آڈٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.jsil.com پر فراہم کر دی ہے۔

2- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 02 اپریل 2021 سے 09 اپریل 2021 (بشمول دونوں دن) میں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے بند رہیں گے۔ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفر ڈپازٹ کی درخواستیں جو کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ اے، مین شاہراہ فیصل، کراچی، کو 10 اپریل 2021 تک برنس کے اختتام سے قبل موصول ہوگی وہ اجلاس میں شمولیت میں بروقت تصور کی جائیں گی۔

3- اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی رکن کو یقین حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ دوسرے شخص کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی دستاویز یا پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر دستاویز (اگر کوئی ہو) جس کے تحت یہ حق دیا گیا ہو یا اس پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائیں۔ انگریزی اردو زبان میں تیار کردہ پراکسی فارم اس رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ڈالی جا چکی ہے۔

4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) بینیفیشل اونرز اور ایان کی پراکسیز کو سیکورٹیز ریٹریبونڈ ایڈوائس کمیٹی آف پاکستان کی جانب سے 2000 کے سرکیولر نمبر 1 درج ذیل وضوح کردہ رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے

a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، کو شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع شرکت دار کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

b- کارپوریٹ انٹیلیٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد پاور آف اٹارنی نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں ہیں)۔

B- پراکسیز کی نامزدگی

a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر جسکی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، مذکورہ بالا درکار ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

b- پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے، جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبرز فارم پر درج ہوں۔

c- پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور بینیفیشل اونرز کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔

d- پراسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

e- کا پورٹ ایٹمیٹی کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی پراسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگی (اگر پہلے فراہم کئے گئے ہوں)۔

5- شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے (اگر کوئی ہو) شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC")

شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے خود مختار شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فراہم کریں۔ اسکی واضح اسکین کی گئی ایک نقل بمع فوٹو نمبر اور خط و کتابت کے لئے موجودہ پتے کے ساتھ CNIC@jsil.com پر بھیجی جاسکتی ہے۔

7- الیکٹرانک موڈ کے ذریعے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی شرائط اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ لکھڑ کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کسی بھی کیش ڈیویڈنڈ کی براہ راست انٹانگڈ شیئرز ہولڈرز کی طرف سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ کے الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کو e-dividend فارم پر فراہم کریں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر دستیاب ہے، جو کمپنی کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے مستقبل کے کیش ڈیویڈنڈ کو براہ راست اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں کریڈٹ کروائیں۔

8- سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹس کے لئے الیکٹرانک ترسیل (اختیاری)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی SRO 787 (I)/2014 کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق، SECP نے کمپنیوں کو مذکورہ SRO میں دی گئی شرائط کی تکمیل سے مشروط سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی اپنے ممبرز کو بذریعہ ای میل ترسیل کی اجازت دی ہے۔ ممبرز کو نوٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل مذکورہ نوٹیفیکیشنز میں تجویز کی گئی مخصوص شرائط سے مشروط کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 223 اور 233 کی متعلقہ شرائط کی تکمیل سمجھی جائے گی۔ اپنے ممبرز کی سہولت کے لئے کمپنی نے اسٹینڈرڈ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر فراہم کر دیا ہے، تاکہ ممبرز اپنے ای میل ایڈریس سے آگاہ کریں اور نوٹس اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ترسیل پر رضامندی ظاہر کر سکیں۔

9- SECP نے اپنے 31 مئی 2016 کے SRO 40 (I) / 2016 اور سیکشن (6) 223 کے ذریعہ کمپنیوں کو اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر ڈیجیٹل ریکارڈنگ ڈیوائس جیسے، سی ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ اکاؤنٹ) کو تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ مذکورہ بالا کے پیش نظر، کمپنی نے اپنے شیئرز ہولڈرز کو سی ڈی وی (ڈیجیٹل ڈسک) کی شکل میں اپنی سالانہ رپورٹ 2020 ارسال کر دی ہے۔ سالانہ رپورٹ 2020 کی طباعت شدہ کاپی کا تقاضا کرنے والا کوئی بھی ممبر کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر موجود اسٹنڈرڈ ریکویسٹ (Standard Request) فارم کا استعمال کر کے درخواست بھیج سکتا ہے۔

10- غیر اعلان شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز

شیئرز ہولڈرز (جو کسی وجہ کی بناء پر) اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز یا اپنے فزیکل شیئرز کو حاصل نہیں کر سکے ہیں (اگر ایسا کوئی ہے) تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے غیر اعلان شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز (اگر کوئی ہو) کو حاصل / معلوم کریں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 سے مطابقت رکھتے ہوئے، مقررہ طریقہ کار کے مکمل ہونے کے بعد، اس طرح کے تمام ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز جو 3 سال سے زائد مدت واجب الادا ہیں ان غیر اعلان شدہ ڈیویڈنڈ کو وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کر دیا جائے اور شیئرز کی صورت میں SECP کو بھیجی جائے۔

11- ای۔ووٹنگ (E-Voting)

ارکان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل اطلاق شقوق کی ضرورت کو پورا کرنے کے تحت رائے شماری کے حق سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کی پیروی میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق بیان کئے گئے جن کے بارے میں سالانہ اجلاس عام میں کارروائی تجویز کی گئی ہے۔
نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 3 - متعلقہ پارٹیز کے درمیان سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے دوران کی گئی ٹرانزیکشنز کی توثیق / منظوری دینا۔

جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈرافٹ قرارداد میں بیان ہے کہ کمپنی اور اس کے زیر انتظام فنڈز نے جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ ٹرانزیکشنز انجام دیں جو 09 اپریل 2020 کو منعقدہ گذشتہ سالانہ اجلاس عام کے دوران ممبران سے منظور شدہ ان کی خصوصی قرارداد کی اتھارٹی کے تحت عمومی کاروباری کورس کے تحت ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے کی گئیں۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 اور کمپنیز (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ مینجمنٹس آف ریلیٹڈ ریکارڈز) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 5 کے تحت سہ ماہی بنیاد پر ایسے تمام ٹرانزیکشنز اور بیلینسز جو بیلینس شیٹ کی تاریخ پر موجود ہوں گے وہ آڈٹ کمیٹی کی تجویز اور تجربے کے بعد نظر ثانی کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کیے جائیں گے۔

تاہم، جیسا کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت (جناب کامران جعفر، جناب طاہر علی شیخ، جناب عمران حلیم شیخ اور جناب حسن شاہد) کو درج ذیل ڈرافٹ قرارداد کے مطابق جے ایس بینک کے ساتھ لین دین کے امور میں دلچسپی کو زیر غور لایا گیا۔ لہذا کمپنی اور اس کے زیر انتظام فنڈز کے جے ایس بینک کے ساتھ کلینڈر سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے دوران کئے گئے لین دین کو شیئر ہولڈرز کے سامنے غور کرنے اور منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ پارٹی کے ساتھ یہ لین دین عمومی کاروباری کورس کے مطابق کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی اجازت کے بعد موثر انداز میں کیا جا رہا ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم یا بغیر کسی ترمیم کے ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی ہے:

ایٹمیٹی	ادا شدہ کرایہ	قابل ادائیگی کرایہ	وصول شدہ کرایہ	جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ بینک بیلنس	ڈپازٹ پر منافع	میوچل فنڈ کی تقسیم پر شیئرنگ پر انتظامی فیس کی ادائیگی	تخوہوں اور اجرتوں کی ری فنانسنگ اسکیم کے تحت حاصل شدہ رقم	تخوہوں اور اجرتوں کی ری فنانسنگ اسکیم کے تحت قابل ادائیگی رقم	دیگر قابل وصول
جے ایس اینوٹیشنس لمیٹڈ	2,676,634	33,942	2,409,149	6,563,839	3,224,053	9,667,565	80,185,959	80,925,089	1,465,064

"طے پایا کہ کمپنی اور اس کے زیر انتظام فنڈز کے تحت مالی سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے دوران جے ایس بینک کے ساتھ کئے درج ذیل ٹرانزیکشنز عمومی کاروباری کورس کے مطابق کی گئیں ان کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

فنڈ / ایٹمیٹی	بینک بیلنس / TDR بیلنس میں JSBL	مارک آپ آمدنی	مارک آپ وصول شدہ	بینک چارجز کی کٹوتی
جے ایس انکم فنڈ	70,095,088	6,887,692	-	-
جے ایس اسلامک انکم فنڈ	3,845,355	-	-	-
جے ایس فنڈ آف فنڈز	824,862	68,373	1,365	-

569	19,829	601,233	5,153,143	جے ایس کیش فنڈ
870	1,410,751	3,879,037	94,938,133	جے ایس گروتھ فنڈ
-	405,869	1,277,466	58,094,928	جے ایس ویلیو فنڈ
-	72,097	134,953	17,392,868	جے ایس پینشن سیویٹنگز فنڈ - ایکویٹی سب - فنڈ
225	179,688	903,580	8,926,651	جے ایس لارج کیپیٹل فنڈ
-	19,104	564,951	490,900	جے ایس پینشن سیویٹنگز فنڈ - منی مارکیٹ سب - فنڈ
-	417,949	2,859,116	10,983,105	یونٹ ٹرسٹ آف پاکستان
-	-	-	572,672	جے ایس اسلامک فنڈ
-	-	-	10,000	جے ایس اسلامک ہابیز فنڈ آف فنڈز مستحکم
-	-	-	19,485	جے ایس اسلامک ہابیز فنڈ آف فنڈز مستند
-	-	-	10,000	جے ایس اسلامک ہابیز فنڈ آف فنڈز متناسب
-	-	-	10,000	جے ایس اسلامک ہابیز فنڈ آف فنڈز مفید

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4 - چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک جے ایس بینک لمیٹڈ (متعلقہ پارٹی) کے ساتھ کئے گئے اور کئے جانے والے ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔

کمپنی اور اس کے زیر انتظام فنڈز کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کاروبار کے عمومی طریقہ کار کے مطابق محتاط انداز سے انجام دینا جاری رکھیں گے۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت کو اس لین دین میں دلچسپی رکھنے کو زبردستی لایا گیا۔ لہذا متعلقہ پارٹیز کے ساتھ اس ٹرانزیکشنز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208، سٹیٹ بینک (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 اور کمپنیز (ریگولیشنز) پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ مینیجمنٹس آف ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 5 کے تحت شیئر ہولڈرز سے منظور کرانا ہوگا۔ یہ ٹرانزیکشنز معمولات کے مطابق ہیں جن میں کوئی معدی یا خصوصی سودے یا انتظامات شامل نہیں۔

کاروباری عمل کو روانی کے ساتھ جاری رکھنے کیلئے شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو متعلقہ پارٹیز کے کاروبار کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک محفوظ طریقے سے انجام دینے کی منظوری کا مجاز قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل ڈرافٹ قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم) میں موجود ہے۔ تاہم جے ایس بینک کے ساتھ ان ٹرانزیکشنز کو اگلی اے جی ایم میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری / تصدیق کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ اس تجویز پر آڈٹ کمیٹی نے اجازت دے رکھی ہے۔



قراردے سکتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل ڈرافٹ قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم) میں موجود ہے۔ تاہم جے ایس بینک کے ساتھ ان ٹرانزیکشنز کو اگلی اے جی ایم میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری / تصدیق کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ اس تجویز پر آڈٹ کمیٹی نے اجازت دے رکھی ہے۔

"طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو جے ایس بینک کے ساتھ آئندہ سالانہ اجلاس تک عام کاروبار کے عمومی طریقہ کار کے مطابق محتاط طور پر ہونے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار ہوگا۔"

مزید طے پایا کہ یہ ٹرانزیکشنز حصص یافتگان کے سامنے توثیق / منظوری کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام میں رکھے جائیں گے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

ڈائریکٹرز کی اکثریت جے ایس بینک لمیٹڈ کے ملازمین ہیں اور کمپنی میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the twenty sixth 26th Annual General Meeting of the members of JS Investments Limited, (the "Company") will be held at 10:30 a.m. on Friday, April 9, 2021 through Zoom Video Conference to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the standalone and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2020, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby notified that the retiring auditors, Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants have completed their five years as Auditors of the Company and are no longer eligible for appointment as per the requirement of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of new auditors, Messrs KMPG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants in their place who have indicated their consent to act as Auditors.

Special Businesses:

3. To ratify and approve balances and the transactions carried out by the Company and funds under its management in the ordinary course of business on arm's length basis with JS Bank Limited (Related Party) as at and during the financial year ended December 31, 2020 under the authority of the resolution passed by the members in the last annual general meeting held on April 09, 2020.
4. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions carried out or to be carried out with Related Parties in the ordinary course of business on arm's length basis till next Annual General Meeting.

Statement of material facts in relation to the aforesaid special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent along with notice of AGM with annual report. The notice of meeting as well as statement has also been placed on the Company's website: (www.jsil.com).

By order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
Company Secretary

Karachi: March 18, 2021

Notes:**Corona virus Contingency Planning for AGM**

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021, permitted Companies which are facing difficulties in holding general meeting physically, to opt to hold such meeting through electronic mode.

Considering the above referred regulatory permissibility, and in view of threat posed by the third wave of COVID-19, the highly contagious nature of the virus, and the practical difficulties in maintain social distancing in a public gathering, the Company intends to convene this AGM electronically through webinar only to safeguard the health and well-being of its members, Officers and Directors.

In view of the above, please note that the Company has made proper arrangements for the shareholders who will be participating in the AGM proceedings through Zoom Link. For that purpose, the shareholders are requested to email the following information with subject "Registration for 26th AGM of JSIL" at email address AGM@jsil.com. Zoom link to join the AGM will be shared with only those shareholders from whom all required particulars are received at the given email address not less than 48 hours before the time of holding the AGM. The shareholders can also provide their comments and questions relating to agenda items of the AGM on email at AGM@jsil.com.

Sr.No.	Name	Folio/CDS Account Number	CNIC No.	Mobile Number	Email Address

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measure are in place for well being of its shareholders.

1. The Company, in accordance with Section 223(7) of the Companies Act 2017, has placed the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020 along with Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report on its website: www.jsil.com.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from April 02, 2021 to April 9, 2021 (both days inclusive) for attending the Annual General Meeting. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on April 01, 2021 by the Independent Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, will be treated as being in time for entitlement to attend the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as proxy to attend, speak and vote for him/ her. An instrument of proxy or power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarial certified copy of such power of attorney or such authority to be valid, be deposited with the registered office of the Company not later than 48 hours before the scheduled time of the meeting. The proxy form in English and Urdu Languages has also been placed on Company's website.
4. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No. 1 of 2000:

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the meeting.

b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. Shareholders are requested to immediately notify the Share Registrar of the change in their addresses, if any.

6. **Computerized National Identity Card ("CNIC")** Shareholders are requested to provide immediately if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shakra-e-Faisal, Karachi. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at CNIC@jsil.com along with folio number and updated address for correspondence.

7. **Payment of cash dividend through electronic mode.** The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that any cash dividend declared by a listed company must be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide electronic dividend mandate on E-Dividend Form available on the Company's website (www.jsil.com) enabling the Company to credit their future cash dividends directly to their designated bank accounts.

8. Electronic Transmission of Annual Financial Statement and Notices (Optional)

In pursuance of the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under S.R.O 787 (I)/2014, the SECP has allowed companies to circulate annual Audited Financial Statements, along with the notice of annual general meeting (Notice) to its members through e-mail subject to compliance with the conditions outlined in the referred SRO of SECP.

The transmission of annual Audited Financial Statements with Notice to members through e-mail shall be considered compliance with the relevant requirements of Sections 223 and 233 of the Companies Act 2017 subject to certain conditions, prescribed in the said notification.

For the convenience of its Shareholders, the Company has placed a Standard Request Form on the Company's website (www.jsil.com), so that the members may use it to communicate their e-mail address and consent for electronic transmission of annual Audited Financial Statement and Notice thereon.

9. SECP through its SRO 40(I)/2016, dated May 31, 2016 and Section 223 (6) has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, Auditors' Report and Directors' Report etc. ("annual audited accounts") to its members through digital recording devices such as, CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report, 2020 to its shareholders in the form of CD (Digital Disc). Any member requiring printed copy of Annual Report, 2020 may send a request using a Standard Request Form placed on Company's website (www.jsil.com).

10. Unclaimed Dividend and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical share, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

11. E-Voting

Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

JS Investments Limited

19th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400.

Toll-free: 0800-00887 | Email: ir@jsil.com | Website: www.jsil.com

